


تاریکین وطن، نسل پرستی کے شکار، اور اکیلی ماں کی سربراہی والے گھرانے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں

سروے کیے گئے گھرانے




تاریکین وطن تھے

ٹورانٹو بحیثیت مجموعی



واحد والدین والے گھرانے تھے، سب سے زیادہ تر ماں کے زیر انتظام تھے



اصلی النسل / قدیم باشندے، ایشیائی، افریقی، عرب / مشرق وسطی، لاطینی امریکہ اور / یا کیریبین نژاد تھے



مجموعی طور پر ٹورانٹو کے ساتھ موازنہ میں، ان پرانی اپارٹمنٹ کی عمارتوں میں تاریکین وطن، نسل پرستی کے شکار اور اکیلی ماں کی سربراہی والے گھرانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔

کم آمدن والے گھرانوں کو ایسی رہائش تلاش کرنے میں مسئلہ ہوتا جو کہ سستی اور مہذب ہو -

لیکن تارک وطن، نسل پرستی کے شکار، اور اکیلی ماں کی سربراہی والے گھرانے رہائش اور روزگار میں بڑے درجے کے امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرتے ہیں -



اگر آپ کے اپارٹمنٹ میں زیادہ لوگ ہیں، ناقابل استطاعت ہے، غیر محفوظ ہے، خراب حالت میں ہے اور اسے مرمت کی ضرورت ہے یا آپ کو بیدخلی کا خطرہ ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں! ذیل کے ادارے مدد دے سکتے ہیں۔ بہت سے (ادارے) مختلف زبانوں میں ترجمہ کی سہولت پیش کرتے ہیں۔



رہائشی مسئلہ کے بارے میں کسے کال کی جائے

ٹورانٹو رینٹ بینک (ٹورانٹو کا بینک برائے کرایہ) (غیر ادا شدہ کرائے کی ادائیگی میں مدد کے لئے) 416-924-2543

ٹینٹ ہاٹ لائن (کرائے دار کی ہاٹ لائن) (بطور کرایہ دار اپنے حقوق کے بارے میں معلومات کے لئے) 416-921-9494

سینٹرل فیملی ان ٹیک (مرکزی مدخل برائے گھرانہ) (پناہ کی ضرورت والے گھرانوں کے لئے) 416-397-5637

سینٹر فار ایکالٹی رائٹس ان اکاموڈیشن (رہائش میں مساوی حقوق کا مرکز) (ان کرائے داروں کے لیے جنہیں بیدخلی کا خطرہ ہو، یا رہائش میں امتیازی سلوک کی رپورٹ کرنے کے لئے) 416-944-0087

ٹورانٹو میونسپل لائسنسنگ اینڈ سینڈرزڈ (ٹورانٹو کی بلدیاتی اجازت اور معیار) (اپنے یونٹ اور عمارت کی مرمت یا حالت کی شکایت درج کرنے کے لئے) 311 or 416-392-2489

ہاؤسنگ کنیکشنز (رہائشی رابطے) (امدادی رہائش کی درخواست یا اپنی درخواست کی تجدید کے لئے) 416-981-6111

لینڈ لارڈ اینڈ ٹینٹ بورڈ (بورڈ برائے مالک مکان و کرایہ دار) (اگر آپ کا مالک مکان آپ کے حقوق بطور کرایہ دار کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی شکایت درج کرنے کے لئے) 416-645-8080

اقرار نامہ / منظوری

یہ خلاصہ ایمیلی پیراڈیس، روتھ ولسن اور جینیفر لوگن کی ایک رپورٹ، نو ویٹر ایلز ٹو گو: ان ایڈیوٹیوٹ ہاؤسنگ اینڈ رسک آف ہوم لیس نس امگ فیملیز ان ٹورانٹو ایجنٹ رینٹل بلڈنگز (جانے کی کوئی جگہ نہیں: ناموزوں رہائش اور ٹورانٹو کی پرانی کرائے کی عمارتوں میں خاندانوں کے مابین بے گھری کا خطرہ) پر مبنی ہے -

مکمل رپورٹ کے مطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے:

<http://neighbourhoodchange.ca/2014/03/11/inadequate-housing-toronto-rental-buildings/>

کینیڈا کی سوشل سائنسز اور ہیومنیز ریسرچ کونسل کی جانب سے پراجیکٹ کو فنڈ کیا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پیمنٹ کا مواد فنڈ دینے والے کے احساسات کی نمائندگی کرتا ہو -

ٹورانٹو رینٹل ہائی رائز میں گھرانے، رہائش اور بے گھر ہونے کا خطرہ

پرانی اپارٹمنٹ عمارتوں میں دس میں سے نو گھرانوں کے شدید رہائشی مسائل ہیں



ٹورانٹو کے گھرانوں کو ایسی رہائش درکار ہے جو:



مناسب،



محفوظ،



سستی،



مستحکم،



اور اچھی حالت میں ہو -

NEIGHBOURHOOD CHANGE | Research Partnership

www.neighbourhoodchange.ca

ٹورانٹو میں پرانی کرایہ کی عمارتوں میں رہنے والے 1500 سے زیادہ گھرانوں کے ایک سروے میں پتا چلا کہ:



2 میں سے 1 گھرانہ ایسے یونٹ میں رہتا ہے جس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں

2 میں سے 1 گھرانہ خراب حالت کی عمارت میں رہتا ہے

3 میں سے 1 گھرانہ اپنی آمدنی سے زیادہ کے استطاعت سے زیادہ کرائے میں ادا کرتا ہے

4 گھرانوں کے یونٹوں میں سے 1 کو متعدد مرمتوں کی ضرورت ہے

4 گھرانوں میں سے 1 اپنے گھر میں غیر محفوظ محسوس کرتا ہے

5 میں سے 1 گھرانہ کرائے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بیدخلی کے خطرے سے دوچار ہے

مجموعی طور پر 10 میں سے 9 گھرانوں کو اپنی رہائش میں ان مسائل میں سے کم از کم ایک مسئلہ (درپیش) ہے۔

کئی گھرانوں کے متعدد اقسام کے رہائشی مسائل ہوتے ہیں۔ گھرانوں میں سے ایک تہائی کے، تین یا اس سے زیادہ اقسام کے مسائل ہیں۔



تعلیم اور روزگار گھرانوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے -

سروے میں تین میں سے دو گھرانوں نے کہا کہ روزگار ہی ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے اور نصف سے زائد نے کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہے -

اس کے باوجود 70 فیصد سے زائد کی آمدن غربت کی لکیر سے نیچے تھی -

بہت سے گھرانے بے گھری کے خطرے کا شکار ہیں

ایک گھرانے کو ان کی رہائش کے حوالے سے جتنے زیادہ مسائل ہوں انہیں اتنا ہی زیادہ بے گھر ہونے کا خطرہ ہو گا۔ جب گھرانے اپنے گھروں سے محروم ہوجاتے ہیں تو، وہ شاذ و نادر ہی شیلٹر (پناہ گاہوں) میں جاتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ اکثر گنجائش سے زیادہ لوگوں والی صورتحال میں دوسرے گھرانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بے گھر گھرانوں کے لیے اپنا ایک نیا گھر تلاش کرنا زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔



موزوں رہائش انسانی حق ہے - اس حق کی بالا دستی حکومت کی تمام سطحوں کی ذمہ داری ہے۔

گھرانے پہلے ہی اپنی بھر پور کوشش کر رہے ہیں: اپنے کرایہ کی ادائیگی، اپنے ہمسائیوں کو مدد فراہم کرنا اور مضبوط پرجوش ہمسایہ گیری کا ماحول پیدا کرنا۔

کینیڈا، آئیٹیو، اور ٹورانٹو کی حکومتیں گھرانوں کی رہائش کے حالات کو بہتر بنانے اور گھرانے کو بے گھر ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتی ہیں۔ ہم اپنی حکومتوں سے یہ چار اقدامات لینے کا کہہ سکتے ہیں:

1 کینیڈا کی حکومت ایسا قومی منصوبہ تیار کر سکتی ہے اور اس میں رقم دے سکتی جس سے سستی رہائش کی فراہمی اور رہائش کی امدادی رقوم میں کٹوتی کی بجائے اضافہ ہو -

2 حکومت آئیٹیو کم سے کم اجرت اور سماجی مدد کی شرح میں اضافہ کر کے اور کم آمدنی والے گھرانوں کو رہائشی وظائف فراہم کر کے گھرانوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہے۔

3 حکومت آئیٹیو اور شہر ٹورانٹو ان تمام نئی، سستی رہائش کی فراہمی میں اضافہ کر سکتے ہیں اس بات کا مطالبہ کر کے کہ تمام نئی تعمیرات میں سستی یونٹس شامل ہوں۔

4 ٹورانٹو شہر کی حکومت تعمیرات کے معیار کے نفاذ کو مضبوط اور کرایہ داروں کو ان کے حقوق کے بارے میں مطلع کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

